

September 22, 2024

4 - سولہویں ورژن

حج کے قرضوں کے بارے میں

1 - حج کے قرضوں کے بارے میں

حج کے قرضوں کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز		
سولہویں ورژن	✓	#
حج کے قرضوں کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز۔		
		1. حج کے قرضوں کے بارے میں (2 قرضوں کے)
		2. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		3. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		4. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		5. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		6. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		7. حج کے قرضوں کے بارے میں
حج کے قرضوں کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز۔		
		8. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		9. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		10. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		11. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
حج کے قرضوں کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز۔		
		12. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		13. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		14. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		15. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
حج کے قرضوں کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز کے بارے میں دستاویز کے تحت جاری کیے گئے دستاویز۔		
		16. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)
		17. حج کے قرضوں کے بارے میں (حج کے قرضوں کے بارے میں)

بۆلۈم 2 -	
بۆلۈم 2 -	
1. بۆلۈم 2 -	
1.1	سۈم
1.2	ئۆلچەم
2. بۆلۈم 2 -	
2.1	بۆلۈم 2 -
2.2	بۆلۈم 2 -
2.3	بۆلۈم 2 -
3. بۆلۈم 2 -	
3.1	بۆلۈم 2 -
	تەلپەن:
	بۆلۈم 2 -
3.2	بۆلۈم 2 - (تەلپەن بۆلۈم 2 -)
3.3	بۆلۈم 2 -
4. بۆلۈم 2 -	
4.1	بۆلۈم 2 -
4.2	بۆلۈم 2 -
4.3	بۆلۈم 2 -
5. بۆلۈم 2 -	
	سۈم
	سۈم
	دېھقانچىلىق
	سۈم

جے ڈی - 3						
قسط نمبر 36 (مئی 2024) کی ذیلی کمیٹی کے رپورٹ کے تحت						
قسط نمبر 36 (مئی 2024) کی ذیلی کمیٹی کے رپورٹ کے تحت						
سرکاری						
#	ڈیٹا	ڈیٹا	ڈیٹا	ڈیٹا	ڈیٹا	ڈیٹا
	ڈیٹا	ڈیٹا	ڈیٹا	ڈیٹا	ڈیٹا	ڈیٹا

نوٹ:

1. پندرہ روزہ کے دوران 3 قسطوں کے تحت...
2. پندرہ روزہ کے دوران...
3. پندرہ روزہ کے دوران...
4. پندرہ روزہ کے دوران...
5. پندرہ روزہ کے دوران...

September 22, 2024

تقریب - 5		
سولہوی و ترقی دہائی کے ناموں کے ساتھ ساتھ		
تقریب کے نام	تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ	تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ
70	70 x $\frac{\text{تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ}}{\text{تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ}}$	تقریب
20	20 x $\frac{\text{تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ}}{\text{تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ}}$	تقریب
10	تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ 20 تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ (تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ 10 تقریب کے نام کے ساتھ ساتھ)	تقریب
100		تقریب

September 22, 2024

ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6 -

އަދަދުގެ ބޭނުންކުރާ ބޭނުންކުރާ ބޭނުންކުރާ ބޭނުންކުރާ

Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To:
[name & address of Purchaser]
.....
.....

[name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract,
.....[name and address of Supplier]
(hereinafter called "the Supplier") shall deposit with
..... [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful
performance under the said Clause of the Contract in an amount of[amount of Guarantee]
.....[amount in words].

We, the
[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to
guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to
..... [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever
right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding
*..... [amount of Guarantee].....
..... [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works
to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between
.....[name of Purchaser] and the Supplier, shall in
any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change,
addition, or modification.

* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the
Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract
until[name of Purchaser] receives full repayment of the same
amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL:

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION